

## Mississauga میں فضائی سپرے پروگرام شروع ہو رہا ہے

City of Mississauga نے فضائی سپرے کا اپنا ہنگامی شیڈول جاری کر دیا ہے جو 15 مئی سے شروع ہو کر 12 جون 2022 تک چلے گا۔ سپرے کا عمل صبح 5 سے 7:30 بجے تک جاری رہے گا۔ یہ سپرے مائثرہ مضافاتی علاقوں میں (LDD) [Lymantria dispar dispar](#) جسے سابقہ طور پر "جیپسی موتہ" کہا جاتا تھا، کو نشانہ بنائے گا۔ سپرے کا وقت موسمی حالات، LDD کیٹرپلرز کی افزائش اور درختوں پر موجود پتوں کی نشوونما پر منحصر ہو گا۔ وارڈ 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور 11 کے [مخصوص علاقوں](#) میں نجی اور سرکاری زمینوں پر سپرے کیا جائے گا۔


سٹی نے یہ سپرے کرنے کے لیے Zimmer Air Services سے معاہدہ کیا ہے۔ سپرے سسٹم والے دو ہیلی کاپٹر درختوں کی چوٹیوں سے تقریباً 15 سے 30 میٹر اوپر تک اڑیں گے۔ سپرے موسم پر منحصر ہے اور صرف موزوں موسمی حالات میں ہی کیا جائے گا۔ ہر علاقے میں دو بار سپرے کیا جائے گا، دونوں باریوں کے درمیان تقریباً سات سے دس دن کا وقفہ کیا جائے گا۔

سٹی نے [FAQs](#) کا ایک تفصیلی مسودہ بھی تیار کیا ہے، جو سپرے کے حوالے سے آپ کے مخصوص سوالات میں مدد دے سکتا ہے یا آپ مزید جاننے کے لیے 20 اپریل سے شروع ہونے والی [public meeting](#) بھی دیکھ سکتے ہیں۔

سپرے کی مخصوص تاریخوں کا انتخاب 48 گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے اور انہیں موسمی حالات کی بنیاد پر 12 گھنٹے پہلے تک منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ سٹی ہر بار سپرے سے 48 گھنٹے پہلے عوام کو نوٹس جاری کرے گا، جو فضائی سپرے کی ویب سائٹ پر درج ہو گا اور سوشل میڈیا [@citymississauga](#) اور [@saugaparksrec](#) پر یا [mississauga.ca/2022spray](http://mississauga.ca/2022spray) پر تازہ ترین معلومات فراہم کرے گا۔ رہائشیوں کو فضائی سپرے [news alerts](#) کے لیے سائن اپ کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔

### سپرے کے مقامات

یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا گھر سپرے کے علاقے میں آتا ہے یا نہیں، آن لائن طور پر [Aerial Spray Treatment map](#) دیکھیں۔





MISSISSAUGA

## News Release

mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga

جن پارکس اور ووڈ لینڈز پر سپرے کیا جا رہا ہے (منکورہ علاقوں کے باہر)	جن مضافاتی علاقوں پر سپرے کیا جا رہا ہے
Britannia Woods Community Forest Dr. Martin L. Dobkin Community Park Eden Woods Hyde's Mill Hollow Jaycee Park Marco Muzzo Sr. Memorial Park Meadowvale Conservation Area Paul Coffey Park Pinecliff Park Riverview Park Riverwood Sparling Woods Staghorn Woods Windrush Woods	Central Erin Mills Clarkson-Lorne Park Cooksville West Creditview East Credit Erindale Erin Mills Gordon Woods Meadowvale Village Mineola Rathwood Sheridan South Common Streetsville Southdown University of Toronto Mississauga (UTM)

### ایریل سپرے کے بارے میں

فضائی سپرے ایک حیاتیاتی کیڑے مار دوا استعمال [Foray 48B Biological Insecticide](#) اور [Aqueous Suspension](#) استعمال کی جائے گی، جس کا فعال جزو *Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki* (Btk) سٹرین #24977 Registration #24977 ABTS-351 ہے، جو *the Pest Control Product Act* کے مطابق ہے۔ [Health Canada](#) کے مطابق Btk کے سپرے سے انسانی صحت اور ماحول کو بہت کم خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ Btk صرف LDD کے لائف سائیکل کے مرحلے میں کیڑپلر کے لیے زہریلا ہے اور یہ بالغ کیڑوں یا تتلیوں کو متاثر نہیں کرتا۔

کیڑے مار دوا کے حوالے سے سٹی کا [public notice](#) دیکھیں۔

وسیع پیمانے پر LDD کا قلع قمع کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہوا سے Btk کا سپرے کرنا ہے۔ اگرچہ فضائی سپرے LDD کو ختم نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی تعداد کو زیادہ قابل انتظام حد تک کم کر دے گا۔ سپرے درختوں کی چوٹیوں کو نشانہ بنائے گا۔

### ہوائی سپرے کے دن کی تیاری

سٹی Mississauga کو صحت مندانہ اور تمام رہائشیوں کے لیے قابل رہائش رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے پُر عزم ہے۔ رہائشیوں کی حفاظت اور صحت اور ماحول کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ عوام صبح سویرے ہیلی کاپٹر کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ عوام، عملے اور سپرے کرنے والے افراد کے لیے کم سے کم خطرے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔

Peel Public Health تجویز کرتا ہے کہ سپرے کے علاقوں کے مکین سپرے کے دوران اور سپرے کے بعد 30 منٹ تک اپنے گھروں کے اندر رہیں تاکہ سپرے کی بوندیں بیٹھ جائیں۔

سپرے سے پہلے، رہائشیوں کو چاہیے کہ:

- کھڑکیوں کو بند کر دیں
- پنکھے اور ایئر کنڈیشنر بند کر دیں یا دوبارہ گردش کرنے والی ترتیب کو منتخب کریں
- کپڑے اور کھلونے وغیرہ اندر رکھیں
- تمام سبزیوں اور جڑی بوٹیوں کے باغات کو ڈھانپ دیں
- پالتو جانوروں کو اندر رکھیں
- BBQs، کھیل کے سامان، لان کے فرنیچر اور گاڑیوں کو ڈھانپ کر رکھیں



MISSISSAUGA

## News Release

mississauga.ca

facebook.com/citymississauga

twitter.com/citymississauga

سپرے کے بعد، رہائشیوں کو چاہیے کہ:

- پول کورز، BBQs، کھیل کے سامان، لان کے فرنیچر اور گاڑیوں کو پانی سے دھوئیں/صاف کریں
- ذاتی اور کھانے پینے کے حفظان صحت کے اچھے اصولوں پر عمل کریں (مثال کے طور پر بیرونی سرگرمیوں کے بعد ہاتھ دھونا، خاص طور پر باغبانی کے بعد؛ باہر کے جوتے دروازے پر چھوڑنا؛ کھانا کھانے یا کھانا پکانے سے پہلے تمام پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح دھونا)
- گھر میں داخل ہونے سے پہلے پالتو جانوروں کے پنجے دھوئیں

صحت اور Btk کے استعمال کے بارے میں کسی قسم کے خدشات یا سوالات کے ساتھ رہائشی، [Peel Public Health](https://www.peel.ca/health) کو 905-799-7700 پر کال کر سکتے ہیں۔ رہائشی اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں۔

### بندشیں اور ٹریفک میں خلل

سٹی ایک ٹریفک پلان نافذ کرے گا جس کے لیے سڑکوں، پارکوں اور پگڈنڈیوں کی عارضی بندش کی ضرورت ہو گی۔ Transport Canada سے منظوری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بندشیں ضروری ہیں۔ سپرے کے دوران ہیلی کاپٹر کی سرگرمی سے ٹریفک کو الٹ کرنے کے لیے چمکتی ہوئی لائٹس اور اشاروں والی گاڑیاں بھی استعمال کی جائیں گی۔

سڑکوں کی بندش صبح 5 سے 7:30 بجے کے درمیان 30 منٹ سے بھی کم تک رہنے کی توقع ہے۔ تمام ہنگامی خدمات کو سپرے زون کے اندر موجود تمام پراپرٹیز تک مکمل رسائی حاصل ہو گی۔

سوالات یا اس بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے کہ آپ اپنی پراپرٹی پر LDD کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، فضائی سپرے کی تفصیلات جیسے سپرے کی تاریخیں، اوقات اور مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے 311 پر کال کریں (اگر City of Mississauga کی حدود سے باہر ہیں، تو 905-615-4311 پر) یا ملاحظہ کریں: [mississauga.ca/2022spray](https://mississauga.ca/2022spray)

تصاویر



[Download photo\]\]](#)



[Download photo\]](#)

میڈیا کنٹیکٹ:

City of Mississauga Media Relations

[media@mississauga.ca](mailto:media@mississauga.ca)

ext. 5232 ,905-615-3200

905-896-5151:TTY